

Attempt questions

1 An equation which remains unchanged replacing x by $1/x$ is called:

- a) Exponential equation
- b) Reciprocal equation
- c) Radical equation
- d) None of these

2 The Quadratic formula is:

$$\text{a) } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{b) } x = \frac{+b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{c) } x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{d) } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

3 Equation is $2x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 3x + 2 = 0$ called:

- a) Reciprocal
- b) Radical
- c) Exponential
- d) None

4 An equation $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ is of form:

- a) Radical
- b) Exponential
- c) Reciprocal
- d) None of these

5 Two factors of $x^2 - 15x + 56 = 0$ are

- a) $(x+8)(x-8)$
- b) $(x-8)(x+7)$
- c) $(x-8)(x-7)$
- d) $(x+8)(x+7)$

6 Equation $3^{2-x} + 6 = 0$ is of type:

- a) Exponential
- b) Radical
- c) Reciprocal
- d) None

7 Solution set of equation $5x^2 - 125 = 0$ is:

- a) $\{5\}$
- b) $\{10\}$
- c) $\{-5\}$
- d) $\{\pm 5\}$

8 Solution of equation $4x^2 - 16 = 0$ is:

- a) $\{\pm 4\}$
- b) $\{4\}$
- c) $\{\pm 2\}$
- d) $\{2\}$

1 وہ مساوات جس میں x کی جگہ $1/x$ درج کرنے سے تبدیلی نہ ہو کہلاتی ہے:

- a) قوت نمائی مساوات
- b) معکوس مساوات
- c) جذری مساوات
- d) ان میں سے کوئی نہیں

2 دو درجی فارمولہ ہے:

$$\text{a) } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{b) } x = \frac{+b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{c) } x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{d) } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

3 مساوات $2x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 3x + 2 = 0$ کہلاتی ہے ایک:

- a) معکوس
- b) ریڈیکل
- c) قوت نمائی
- d) None

4 مساوات $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ کی قسم ہے:

- a) جذری
- b) قوت نمائی
- c) معکوس
- d) None of these

5 مساوات $x^2 - 15x + 56 = 0$ کے دو اجزاء ضربی ہیں:

- a) $(x+8)(x-8)$
- b) $(x-8)(x+7)$
- c) $(x-8)(x-7)$
- d) $(x+8)(x+7)$

6 مساوات $3^{2-x} + 6 = 0$ کی قسم ہے ایک:

- a) جذری مساوات
- b) قوت نمائی مساوات
- c) معکوس مساوات
- d) ان میں سے کوئی نہیں

7 مساوات $5x^2 - 125 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

- a) $\{5\}$
- b) $\{10\}$
- c) $\{-5\}$
- d) $\{\pm 5\}$

8 مساوات $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

- a) $\{\pm 4\}$
- b) $\{4\}$
- c) $\{\pm 2\}$
- d) $\{2\}$